

112077- اگر نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت بھول جانے تو کیا سجدہ سو کرے گا؟

سوال

ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے سورت فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا بھول گیا، تو اس پر کیا واجب ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ: اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کریم کی تلاوت سے قبل تسمیہ بھول جاتا ہے تو اس پر کیا لازم ہے؟

پسندیدہ جواب

سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے یا نماز میں کوئی بھی سورت پڑھتے ہوئے تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح آمین کہنا بھی سنت ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ سنتیں بھول جاتا ہے تو اس پر سجدہ سو لازم نہیں ہے، تاہم سجدہ سو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر سجدہ سو نہیں کرتا تو اس پر کچھ نہیں ہے، اور اس کی نماز صحیح ہے۔

جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر کوئی انسان اقوال و افعال میں سے کوئی بھی مستحب فعل بھول جاتا ہے، اور اس کی عادت تھی کہ وہ مستحب عمل پابندی سے کیا کرتا تھا، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کامل صورت میں پیدا ہونے والے نقص کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سو کرے، یہ سجدہ سو واجب میں کمی کا نہیں ہوگا؛ کیونکہ حدیث مبارکہ عام ہے کہ: (ہر سو میں دو سجدے ہیں) اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ: (جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو دو سجدے کرے) یہ حدیث بھی عام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایسی سنت ترک کرتا ہے جسے کرنا اس کی عادت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے سجدہ سو کرنا مسنون نہیں ہے؛ کیونکہ اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اس نے رہ جانے والا یہ مسنون عمل کرنا تھا۔" ختم شد

"الشرح الممتع" (3/333)

نماز کے ارکان، واجبات اور سنتیں جاننے کے لیے آپ سوال نمبر: (65847) کا جواب ملاحظہ کریں۔

واللہ اعلم